



خالد! عنقریب میرے بعد بہت سارے نئے واقعات، فتنے اور اختلاف جنم لیں گے اگر تم میں اللہ کے نزدیک قاتل کے بجائے مقتول بندے کی استطاعت ہو تو ایسا ہی کرنا

خالد بن عرفطہ رضی اللہ عنہ فرماتا ہے میں نے مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خالد! عنقریب میرے بعد بہت سارے نئے واقعات، فتنے اور اختلاف جنم لیں گے اگر تم میں اللہ کے نزدیک قاتل کے بجائے مقتول بندے کی استطاعت ہو تو ایسا ہی کرنا“
[صحیح] [اسے امام احمد نے روایت کیا ہے]

نبی کریم ﷺ نے خالد بن عرفطہ رضی اللہ عنہ کو بتایا ہے کہ عنقریب تم میں بہت سارے اختلافات، جنگوں اور فتنوں کا سامنا ہو گا۔ مثلاً امت کے پاس ان کی قیادت کے لیے کوئی حقیقی حکمران نہیں ہوگا، یا پھر ہر ریاست کا الگ الگ راجہ ہوگا، ان کے درمیان فتنے اور جنگیں رونما ہوں گی تو ایسے وقت میں انہیں فتنے سے الگ رہنے، اپنے آپ کو ان کا حصہ بننے سے بچنے اور رکھنا اور پیچھے بیٹھ رہنے اور ان کا ساتھی نہ بننے کا حکم دیا۔ اگر ظلماً ان کو قتل کر دیا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی مسلم کو قتل کریں۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر میں رہیں یا پھر فتنے سے بچنے کے لیے علاقہ تبدیل کر لیں۔ لیکن دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کو فتنے کے وقت میں اپنا، اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا دفاع کرنا چاہیے، فتنے کے وقت میں دفاع کرنا چاہیے۔ اگر وہ قتل کر دیتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کو معذور سمجھا جائے گا بشرطیکہ فتنے و فساد کے کھڑے ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ لیکن جب امت مسلمہ کسی ایک امام (کی حکمرانی) پر مجتمع ہو جائے چاہے وہ انصاف کے ساتھ ہو یا جبراً، پھر اس کے خلاف خروج کرنا ممنوع ہے ایسا کرنے والا اصل میں اطاعت کی لالچی کو توڑنا چاہتا ہے۔ حکمران کے لیے ضروری ہے کہ اس کے خلاف خروج کرنے والوں سے مذاکرات کرے۔ اگر مذاکرات کے بعد بھی وہ اس کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ڈراتے ہیں تو حکمران پر واجب ہے کہ ان کے خلاف قتال کرے تاکہ ان کے شر کو روکا جائے اور رعایا پر بھی واجب ہے کہ وہ حکمران کا ساتھ دیں۔ اس وقت تک ان خروج کرنے والوں سے قتال کریں جب تک وہ باز نہ آجائیں یا پھر اللہ کے حکم کی طرف لوٹ نہ آئیں۔ اطاعت سب کے لیے ایک جیسی ہے چاہے وہ باغی ہوں یا خارجی ہوں۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/58266>